



سوال

(632) کسی رکعت کا درمیانی سجدہ رہ جائے تو...؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر نماز میں کسی رکعت کا سجدہ کسی وجہ سے رہ جائے تو سجدہ سو کفایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک نمازی کا آخری رکعت کا سجدہ حذف ہو گیا تھا تو آپ ﷺ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر تشہد مکمل کرنے پر سجدہ سو کا حکم فرمایا۔

اگر مذکورہ صورت کے علاوہ پہلی یا دوسری رکعت کا سجدہ حذف ہو جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو کیا کرے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ (حافظ محمد حسین، حجرہ شاہ مقیم، اوکاڑہ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دو سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ رہ جائے، تو جس رکعت میں سجدہ رہا ہے، وہیں سے نماز شروع۔ جس کی صورت یہ ہے، کہ ایک سجدہ پہلے ہو چکا ہے، ایک سجدہ اور کر کے اس کے بعد والی رکعتیں پڑھ لے۔ پھر اخیر میں التیات کے بعد سلام سے پہلے یا بعد میں سجدہ سو کرے۔ کیونکہ دونوں سجدے رکن ہیں۔ ایک کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ (فتاویٰ البحرہ ص ۲۸۰)

ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 541

محدث فتویٰ